

برائے فوری اجراء

کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران فعال نقل و حمل کے محفوظ ذرائع کو فروغ دینے کے لیے سٹی عارضی بائیک لینز کا نفاذ کر رہا ہے

برامپٹن، آن (17 اپریل 2020) – کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران رہائشیوں کو صحت مند اور محفوظ رکھنے کے لیے، سٹی آف برامپٹن ووڈن اسٹریٹ کوریڈور کے اوپر عارضی بائیک لینز بنا رہا ہے۔ یہ عارضی بائیک لینز رہائشیوں کو تفریحی طور پر پیدل چلنے کے متبادل کے طور پر سائیکل چلانے کا انتخاب فراہم کریں گی اور سائیکل چلانے والوں کو جسمانی فاصلہ برقرار رکھنے کے قابل بھی بنائیں گی۔

بروز ہفتہ، 18 اپریل سے، سٹی سڑک کے درج ذیل حصوں کے ساتھ عارضی طور پر سڑک کنارے کی لینز کو گاڑیوں کی ٹریفک کے لیے بند کر رہا ہے اور انہیں صرف سائیکلوں کے استعمال کے مقصد کے لیے مختص کر رہا ہے:

- ووڈن اسٹریٹ – کین وہیلنز ڈرائیو سے ہاؤڈن بولیورڈ تک
- ہاؤڈن بولیورڈ – ووڈن اسٹریٹ سے سنٹرل پارک ڈرائیو تک

سڑک کے یہ حصے ایکٹو ٹرانسپورٹیشن ماسٹر پلان میں تجویز کردہ منصوبہ شدہ ایسٹ-ویسٹ سائیکلنگ کوریڈور کے ساتھ رابطے کا حصہ ہیں۔ سٹی، برامپٹن 2040 ویژن اور کونسل کے اس دور کی ترجیح اسٹریٹس فار پیبل کے مطابق ان سڑکوں پر مستقل محفوظ بائیک لینز لاگو کرنے پر کام کر رہا ہے۔

کووڈ-19 کے نتیجے میں پیل ریجن میں گاڑیوں کی ٹریفک 33 فیصد کم ہے، جو سٹی کو منصوبہ شدہ ایسٹ-ویسٹ سائیکلنگ کوریڈور کا حصہ ظاہر کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کر رہا ہے، تاکہ سائیکل سواروں کو ضروری سہولیات اور سٹی کے پیدل چلنے کے نیٹ ورک تک محفوظ راستہ دیا جا سکے۔

سائیکل کے حوالے سے حفاظتی مشوروں کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ فرمائیں۔

اقتباسات

"اب جبکہ ہم اس ان دیکھی صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو اس دوران ہمارے رہائشی ہماری اولین ترجیح ہیں۔ مجھے اس بات کو کہنے پر فخر ہے کہ برامپٹن سائیکل سواروں اور پیدل چلنے والوں کو جسمانی فاصلہ بندی برقرار رکھنے کے لیے زیادہ جگہ دینے کے لیے سڑکوں کو بدل رہا ہے اور ٹریفک لینز کو نئے مقصد کے لیے تبدیل کر رہا ہے۔ میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ جسمانی فاصلہ بندی کی سفارشات پر عمل کریں اور ان مشکل حالات میں جتنا زیادہ ممکن ہو سکے چست اور صحت مند رہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن اپنے شہر کے فروغ و ترقی کو جاری رکھنے کے لیے فعال نقل و حمل کو فروغ دینے، ممکن بنانے اور نفاذ کرنے میں یقین رکھتا ہے۔ کووڈ-19 کی ہنگامی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ پیدل چلنے والے، سائیکل سوار اور گاڑیاں آپس میں ایک محفوظ فاصلہ رکھ سکیں۔ بذات خود ایک سائیکل سوار کے طور پر، مجھے ان عارضی بائیک لینز کو ممکن بنانے کے لیے کمیونٹی کے ساتھ ہماری مشترکہ کوششوں پر فخر ہے اور میں آنے والے وقت میں مستقل حل نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5؛ رکن، سائیکلنگ ایڈوانزری کمیٹی

"سٹی عارضی طور پر سڑک کی کچھ جگہ کو سائیکل سواروں کے لیے تقویض کر رہا ہے، تاکہ رہائشیوں کو کووڈ-19 کی عالمی وباء کے دوران آپس میں جسمانی فاصلہ رکھتے ہوئے صحت مند اور فعال رکھا جا سکے۔ اپنی سڑکوں پر کم ٹریفک کے ساتھ، ہم کسی بھی ایسے شخص کے لیے ایک مثبت اور محفوظ تجربہ فراہم کرنے کی امید کر رہے ہیں، جو اس وقت کے دوران سائیکل کی سواری کرنا چاہتا ہو۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"لوگوں سے علیحدہ رہنے کے اس وقت میں، میرے اور میری بیوی کے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت برقرار رکھنے کے طریقے کا ایک بڑا حصہ ضروری اشیاء خریدنے اور ورزش کے لیے اپنی سائیکلوں کی سواری کرنا ہے۔ میں میئر براؤن، کونسلر سینٹوس اور پوری برامپٹن کونسل اور سٹی کے عملے کا شکرگزار ہوں جو اس ضرورت کو سمجھتے ہیں اور ایک بائیک لین کے لیے اہم عوامی جگہ مختص کر رہے ہیں، جس سے راستوں پر سے دباؤ ہٹ جائے گا، تاکہ ہم سب جسمانی فاصلے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے باہر جا سکیں۔"

- ڈیوڈ لنینگ، چیئر، بائیک برامپٹن

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca